

# یہ حقیقت ہے

حجۃ الاسلام والمسلمین جعفر الہادی

مترجم: محمد منیر خان لکھیم پوری



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال رسول الله ﷺ: "السی تارک لیکم الثقلین، کتاب  
 اللہ، وعترتی اہل بیٹی ما ان تمسکتہم بہما لن تضلوا ابدا  
 وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض".

حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: "میں تمہارے درمیان  
 دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں: (ایک) کتاب خدا اور  
 (دوسری) میری عترت اہل بیت (علیہم السلام)، اگر تم انہیں اختیار  
 کئے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو گے، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک  
 کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔"

(صحیح مسلم: ۱۲۲/۷، سنن داری: ۳۳۲/۲، مستدرک ح: ۱۴۳، ۱۷۱، ۲۶، ۵۹، ۳۶۶/۳، ۳۷۱،

۱۸۲/۵، اور ۱۸۹، مستدرک حاکم: ۱۰۹، ۱۳۸، ۵۳۳، وغیرہ)

# پہ حقیقت ہے

حجۃ الاسلام و المسلمین آقای جعفر الہادی

مترجم: محمد منیر خان لکھنوی پوری

مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

ہادی، جعفر

یہ حقیقت ہے! جعفر الہادی، مترجم محمد متراخان لکھیم پوری، قم: مجمع جهانی اہل بیت (ع)، ۱۳۲۶ھ - ۲۰۰۶ء، ۱۳۸۲ء، ۶۶ ص.

ISBN 964-529-032-5

لہرستریسی بر اساس اطلاعات لیا،

عنوان اصلی: الحقیقہ کما ہی

اردو

کتابنامہ بہ صورت زیرویس،

۱. شیعہ - عقاید، ۲. شیعہ - دفاعیہا و ردیہا، ۳. شیعہ

امامہ - تاریخ، الف. لکھیم پوری، محمد متراخان، مترجم، ب. مجمع

جہانی اہل بیت (ع)، ج. عنوان

۲۹۷/۲۱۷۲

BP111/5/17/5

۱۳۸۲

۸۲-۲۵۲۷۵

کتابخانہ ملی ایران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## حرف اول

الحقیقہ کما ہی

تالیف: آقای جعفر الہادی



کتاب کا نام: یہ حقیقت ہے

مؤلف: جیہ الاسلام والسین آقای جعفر الہادی

مترجم: محمد منیر خان لکھیم پوری

نظر ثانی: سید کیمل اصغر زیدی

پیشکش: معاونت قرآنی، ادارہ ترجمہ

کیوزنگ: المرسل

ناشر: مجمع جهانی اہل بیت (ع)

طبع اول: ۱۳۲۶ھ - ۲۰۰۶ء

تعداد: ۳۰۰۰

مطبع: اتحاد

شابک: ۹۶۳-۵۲۹-۰۳۲-۵

www.ahl-ul-bayt.org



جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کا فور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی

اسلام کی عالم تاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمراں ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، دلولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی سے رو برو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلام ﷺ کی یہ گراہبہ میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزدان اسلام کی بے توجہی اور ناقداری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف

اٹھی اور گڑھی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جہانی بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہر انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدوخال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انسانیت کے شکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کے دروازے کھولے گا۔

(ع) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علام آقائی شیخ جعفر الہادی کا گرانقدر رسالہ ”الحقیقۃ کما ہی“ کو فاضل جلیل مولانا محمد منیر خان صاحب لکھنؤ پوری نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس رسالے کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام

مدیر امور ثقافت، مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

## باہمی شناخت کی ضرورت

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (۱)

اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دئے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔

اسلام جب آیا تو لوگ آپس میں متفرق اور مختلف گروہوں میں بے ہوئے ہی نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے سے لڑائی، جھگڑے اور خون خرابے میں مبتلا تھے، مگر اسلامی تعلیمات کے طفیل میں آپسی دشمنی اور ایک دوسرے سے اجنبیت کی جگہ میل جول اور عداوت کی جگہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور قطع تعلق کی جگہ قربت پیدا ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ ایک عظیم امت کی شکل میں سامنے آئی، جس

نے (اس وقت) عظیم اسلامی تہذیب و تمدن کو پیش کیا، اور اسلام سے وابستہ گرد و ہوں کو ہر ظالم و جاہل سے بچالیا، اور ان کی پشت و پناہی کی، جس کی بنا پر یہ امت تمام اقوام عالم میں محترم قرار پائی، اور سرکش جباروں کی لگا ہوں میں رعب و دبدبہ اور ہیبت کے ساتھ ظاہر ہوئی۔

لیکن یہ سب چیزیں نہیں وجود میں آئیں مگر امت مسلمہ کے درمیان آپس کا اتحاد و وحدت اور تمام گروہوں کا باہمی ارتباط رکھنے کی بنا پر، جو کہ دین اسلام کے سایہ میں حاصل ہوا تھا، حالانکہ ان سب کی شہریت، رائے، ثقافت، پہچان، اور تقلید الگ الگ تھی، البتہ اصول و اساس، فرائض و واجبات میں اتفاق و اتحاد کافی حد تک موجود تھا، بالیقیناً وحدت قوت، اور اختلاف کمزوری ہے۔

بہر حال یہ مسئلہ اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ باہمی جان پہچان اور آپسی میل جول کی جگہ اختلافات نے لے لی، اور تقابلی جگہ ایک دوسرے سے منافرت آگئی، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کے بارے میں کفر کے فتوے دینے لگا، اس طرح فاصلے پر فاصلے بڑھتے گئے، جس کی وجہ سے جو رہی سہی عزت تھی وہ بھی رخصت ہو گئی، اور مسلمانوں کی ساری شان و شوکت ختم ہو گئی اور سارا رعب و دبدبہ جاتا رہا، اور حالت یہ ہوئی کہ قیادت کی علمبردار قوم سرکشوں کے ہاتھوں ذلت و رسوائی اٹھانے پر مجبور ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی نشوونما کے دہانوں میں لومڑی اور بھیڑے صفت افراد قابض ہو گئے، یہی نہیں بلکہ ان کے گھروں کے اندر تمام عالم کی برائیاں، ملعون اشخاص اور

نوع بشر کے مبغوض ترین افراد گھس آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا سارا مال و منال لوٹ لیا گیا، اور ان کے مقدسات کی توہین ہونے لگی، اور ان کی عزتیں فاسقوں و فاجروں کی مرہون منت ہو گئیں، اور تنزیلی کے بعد تنزیلی، انحطاط کے بعد انحطاط، اور شکست کے بعد شکست ہونے لگی، کہیں اندلس میں شکست فاش، کہیں بخارا، سمرقند، تاشقند، بغداد، ماضی اور حال میں، اور فلسطین اور افغانستان میں ہار پہ ہار کا سامنا کرنا پڑا۔

اور حال یہ ہو گیا کہ لوگ مدد کیلئے بلاتے تھے لیکن کوئی جواب دینے والا نہ تھا، فریاد کرنے والے تھے مگر کوئی فریادرس نہ تھا۔

ایسا کیوں ہوا، اس لئے کہ مرض کچھ اور تھا اور اس کی دوا اور، اللہ نے تمام امور کی باگ ڈور ان کے ظاہری اسباب پر چھوڑ رکھی ہے، کیا اس امت کی اصلاح اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے ابتداء میں ہوئی تھی؟

آج امت اسلام اپنے خلاف کئے جانے والے سماجی، عقیدتی اور وحدت کے مخالف شدید اور سخت ترین حملہ سے جو چہ رہی ہے، مذہبی میدانوں میں اندر سے اختلاف کیا جا رہا ہے، اجتہادی چیزوں کو اختلافی چیز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ حملہ ایسا ہے کہ اس کا ثمرہ اور اس کے (برے) نتائج ظاہر ہونے ہی والے ہیں، کیا ایسے موقع پر ہم لوگوں کے لئے سزاوار نہیں کہ اپنی وحدت کی صفوں کو متصل رکھیں، اور آپسی تعلقات کو محکم استوار کریں؟ ہم مانتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے بعض مغز تپا



رسومات جدا جدا ہیں مگر ہمارے درمیان بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں جیسے کتاب و سنت جو کہ ہمارا مرکز اور سرچشمہ ہیں وہ مشترک ہیں، توحید و نبوت، آخرت پر سب کا ایمان ہے، نماز و روزہ، حج و زکاۃ، جہاد، اور حلال و حرام یہ سب حکم شریعت ہیں جو سب کیلئے مشترک ہیں، نبی اکرمؐ اور ان کی آل سے محبت، اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا ہمارے مشترکات میں سے ہیں، البتہ اس میں کمی یا زیادتی ضرور پائی جاتی ہے، کوئی زیادہ محبت و دشمنی کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی کم، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک ہاتھ کی تمام انگلیاں آخر میں ایک ہی جگہ (جوڑے) جا کر ملتی ہیں، حالانکہ یہ طول و عرض اور شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یا اس کی مثال ایک جسم جیسی ہے، جس کے اعضاء و جوارح مختلف ہوتے ہوئے ہیں، مگر بشری فطرت کے مطابق جسمانی پیکر کے اندر ان میں ہر ایک کا کردار جدا جدا ہوتا ہے اور ان کی شکلوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور ان کا مجموعہ ایک ہی جسم کہلاتا ہے۔

چنانچہ بعید نہیں کہ امت اسلامیہ کی تشبیہ جو ”یرواحد“ اور ایک بدن سے دی گئی ہے اس میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔

سابق میں مختلف اسلامی فرقوں اور مذاہب کے علماء ایک دوسرے کیساتھ بغیر کسی اختلاف و تنازعہ کے زندگی گزارتے تھے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ بعض نے ایک دوسرے کی کلامی یا فقہی کتابوں کے شرح تک کی

ہے، اور ایک دوسرے سے شرف تلمذ حاصل کیا، یہاں تک کہ بعض تو دوسرے کی تکریم کی بنا پر بلند ہوئے، اور ایک دوسرے کی رائے کی تائید کرتے، بعض بعض کو اجازت روایت دیتے، یا ایک دوسرے سے اجازت نقل روایت لیتے تھے تاکہ ان کے فرقے اور مذہب کی کتابوں سے روایت نقل کر سکیں، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے، اور انہیں امام بناتے، دوسرے کو زکاۃ دیتے، ایک دوسرے کے مذہب کو مانتے تھے، خلاصہ یہ کہ تمام گروہ بڑے پیار و محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جبکہ ان کے درمیان تنقیدیں اور اعتراضات بھی ہوتے تھے لیکن یہ تنقیدیں مہذب اور مؤدب انداز میں کسی علمی موضوعی رد ہوتی تھی۔

اس کے لئے زندہ اور تاریخی دلیلیں موجود ہیں، جو اس عمیق اور وسیع تعاون پر دلالت کرتی ہیں، مسلم علماء نے اسی تعاون کے ذریعہ اسلامی ثقافت اور میراث کو سیراب کیا ہے، انہیں چیزوں کے ذریعہ مذہبی آزادی کے میدان میں انہوں نے تعجب آور مثالیں قائم کی ہیں بلکہ وہ اسی تعاون کے ذریعہ دنیا میں قابل احترام قرار پائے ہیں۔

یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ علمائے امت مسلمہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، اور صلح و صفائی سے کسی مسئلے میں بحث و مباحثہ نہ کر سکیں، اور کسی اختلافی مسئلے میں اخلاص و صدق نیت کے ساتھ غور و خوض نہ کر سکیں، نیز ہر گروہ کی دلیلوں اور براہن کو نہ پہچان سکیں۔

جیسے یہ بات کتنی معقول اور حسین ہے کہ ہر فرقہ اپنے عقائد اور فقہی و فکری موقف کو آزادانہ طور پر اور واضح فضا میں پیش کرے، تاکہ ان کے خلاف جو اتہام، اعتراض خصوصیت اور بیجا جوش میں آنے کا جو امور سبب بنتے ہیں وہ واضح اور روشن ہو جائیں، اور اس بات کو کبھی جان لیں کہ ہمارے درمیان مشترک، اور اختلافی مسائل کیا ہیں تاکہ اس سے لوگ جان لیں کہ مسلمانوں کے درمیان ایسی چیزیں زیادہ ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے، اور ان کے مقابلہ میں اختلافی چیزیں کم ہیں، اس سے مسلمانوں کے درمیان موجود اختلاف کے فاصلے کم ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے نزدیک آجائیں گے۔

یہ رسالہ اسی راستہ کا ایک قدم ہے، تاکہ حقیقت روشن ہو جائے، اور اس کو سب لوگ اچھی طرح پہچان لیں، بیشک اللہ توفیق دینے والا ہے۔

## فرقہ امامیہ جعفریہ

۱۔ دور حاضر میں امامیہ فرقہ مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ ہے، جس کی کل تعداد مسلمانوں کے تقریباً ایک چوتھائی ہے، اور اس فرقہ کی تاریخی جڑیں صدر اسلام کے اس دن سے شروع ہوتی ہیں کہ جس دن سورہ بینہ کی یہ آیت نازل ہوئی تھی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ (۱)

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا وہی بہترین مخلوق ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا ﷺ نے اپنا ہاتھ علیؑ کے شانے پر رکھا اس وقت اصحاب بھی وہاں موجود تھے، اور آپ نے فرمایا:

“ يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ”

(۱) سورہ بینہ، آیت: ۷۔

اے علی! تو اور تیرے شیعہ بہترین مخلوق ہیں۔

مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں دیکھئے: تفسیر طبری (جامع البیان) درمنثور  
مؤلفہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی، تفسیر روح المعانی: مؤلفہ آلوسی بغدادی شافعی،

اسی وجہ سے یہ فرقہ - جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ میں ان کا پیرو ہونے کی بنا پر  
ان کی طرف منسوب ہے - شیعہ فرقہ کے نام سے مشہور ہوا۔

۲- شیعہ فرقہ کثیر تعداد میں ایران، عراق، پاکستان اور ہندوستان میں زندگی  
بسر کرتا ہے، اسی طرح اس کی ایک بڑی تعداد خلیجی ممالک، ترکی، سیریا (شام)،  
لبنان، روس اور اس سے جدا ہونے والے جدید ممالک میں موجود ہے، نیز یہ  
فرقہ یورپی ممالک جیسے انگلینڈ، جرمنی، فرانس اور امریکہ، اسی طرح افریقی ممالک، اور  
مشرقی ایشیا میں بھی پھیلا ہوا ہے، ان مقامات پر ان کی اپنی مسجدیں اور علمی، ثقافتی اور  
سماجی مراکز بھی ہیں۔

۳- اس فرقہ کے افراد اگرچہ مختلف ممالک، قوموں اور متعدد رنگ و نسل سے تعلق  
رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑے پیار و محبت  
سے رہتے ہیں، اور تمام آسان یا مشکل میدانوں میں سچے دل اور اخلاص کے ساتھ  
ان کا تعاون کرتے ہیں، اور یہ سب اس فرمان خدا پر عمل کرتے ہوئے انجام دیتے

ہیں: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (۱)

مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

یا اس قول خدا پر عمل کرتے ہیں:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (۱)

نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔

اور رسول اکرم کے اس قول کی پابندی کرتے ہوئے:

۱. "المسلمون يدو احد على من سواهم"

مسلمان آپس میں ایک دوسرے کیلئے ایک ہاتھ کی طرح ہیں۔ (۲)

یا آپ کا یہ قول ان کے لئے مشعل راہ ہے:

۲. "المؤمنون كما لجسد الواحد"

مسلمان باہم ایک جسم کی مانند ہیں۔ (۳)

۳- پوری تاریخ اسلام میں دین خدا اور ملت اسلامیہ کے دفاع کے سلسلے میں اس

فرقہ کا ایک اہم اور واضح کردار رہا ہے، جیسے اس کی حکومتوں اور ریاستوں نے اسلامی

ثقافت اور تمدن کی ہمیشہ خدمت کی ہے، نیز اس فرقہ کے علماء اور دانشوروں نے اسلامی

میراث کو فنی بنانے اور بچانے کے سلسلے میں مختلف علمی اور تجربی میدانوں میں جیسے

(۱) مائتہ، آیت ۲.

(۲) مسند احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۳۱۵.

(۳) الصحیح البخاری، ج ۱، کتاب الادب، ص ۲۷.

تفسیر، حدیث، عقائد، فقہ، اصول، اخلاق، درایہ، رجال، فلسفہ، موعظہ، حکومت، سماجیات، زبان و ادب، بلکہ طب اور فیزیکس، کیمیا، ریاضیات، نجوم، اور اس کے علاوہ متعدد حیاتیاتی علوم کے بارے میں لاکھوں کتابیں تحریر کر کے اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ بہت سے علوم کے موجد و انشور تو اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۱)

۵۔ شیعہ فرقہ معتقد ہے کہ خدا احد و صمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اور اس سے جسمانیت، جہت، مکان، زمان، تغیر، حرکت، صعود و نزول وغیرہ جیسی صفات جو اس کی صفات کمال و جمال و جلال کے شایان و شان نہیں ہیں، ان کی نفی کرتا ہے۔

اور شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حکم اور تشریح (شریعت کا قانون بنانا) صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر طرح کا شرک چاہے وہ خفی ہو یا جلی ایک عظیم ظلم اور نہ بخشا جانے والا گناہ ہے۔

اور شیعوں نے یہ عقائد؛ عقل محکم (سالم) سے اخذ کئے ہیں، جن کی تائید و تصدیق

کتاب خدا اور سنت شریفہ سے بھی ہوتی ہے۔

اور شیعوں نے اپنے عقائد کے میدان میں ان احادیث پر تکیہ نہیں کیا ہے جن میں اسرائیلیات (جعلی توریت اور انجیل) اور مجوسیت کی گڑھی ہوئی باتوں کی آمیزش ہے، جنہوں نے اللہ کو بشر کی مانند مانا ہے، اور وہ اس کی تشبیہ مخلوق سے دیتے ہیں، یا پھری اس کی طرف ظلم و جور، اور لغو و عبث جیسے افعال کی نسبت دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے نہایت بلند و برتر ہے، یا یہ لوگ خدا کے پاک و پاکیزہ معصوم نبیوں کی طرف برائیوں اور قبیح باتوں کی نسبت دیتے ہیں۔

۶۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا عادل اور حکیم ہے، اور اس نے عدل و حکمت سے خلق کیا، چاہے وہ جماد ہو یا نبات، حیوان ہو یا انسان، آسمان ہو یا زمین، اس نے کوئی شے عبث خلق نہیں کی ہے، کیونکہ عبث (فضول یا بیکار ہونا) نہ تھا اس کے عدل و حکمت کے منافی ہے بلکہ اس کی اس الوہیت سے بھی منافی ہے جس کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے لئے تمام کمالات کا اثبات کیا جائے، اور اس سے ہر قسم کے نقص کی نفی کی جائے۔

۷۔ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے عدل و حکمت کے ساتھ ابتدائے خلقت ہی سے اس کی طرف انبیاء اور رسولوں کو معصوم بنا کر بھیجا، اور پھر انہیں وسیع علم سے آراستہ کیا جو وحی کے ذریعہ اللہ کی جانب سے انہیں عطا کیا گیا، اور یہ سب کچھ نوع بشر کی ہدایت اور اسے اس کے گمشدہ کمال تک پہنچانے کیلئے تھا تا کہ اس کے ذریعہ

(۱) دیکھئے: محمد صدر کی کتاب "تاسیس الشیعہ لعلوم الاسلام؛ الذریعۃ الی تصانیف الشیعہ (۲۹ جلد)؛ مؤلفہ آقا بزرگ طہرانی، کشف الظنون؛ مؤلفہ آقندی، معجم المؤلفین؛ مؤلفہ عمر رضا کحالیہ، اعیان الشیعہ؛ مؤلفہ محسن امین عاملی وغیرہ۔

ایسی طاعت کی طرف بھی اس کی راہنمائی ہو جائے جو اسے جنتی بنانے کے ساتھ ساتھ پروردگار کی خوشنودی اور اس کی رحمت کا مستحق قرار دے، اور ان انبیاء و مرسلین کے درمیان آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سب سے مشہور ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، یا جن کے اسماء اور حالات سنت شریفہ میں ذکر ہوئے ہیں۔

۸۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے اوامر کو نافذ کرے، اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کے قوانین پر عمل کرے وہ نجات یافتہ اور کامیاب ہے، اور وہی مستحق مدح و ثواب ہے، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور جس نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کے اوامر کو نہیں پہچانا، اور اللہ کے احکام کے بجائے دوسروں کے احکام کے بندھن میں بندھ گیا، وہ مستحق مذمت اور ہلاک شدہ اور گھانا اٹھانے والوں میں سے ہے، چاہے وہ قرشی سید ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ پیغمبر اسلام ﷺ کی حدیث شریفہ میں آیا ہے۔

شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ثواب و عقاب ملنے کی جگہ روز قیامت ہے جس دن حساب و کتاب، میزان و نارسب کے سامنے ہوں گے، اور یہ مرحلہ برزخ اور عالم قبر کے بعد ہوگا، نیز عقیدہ تناخ جس کے منکرین معاد قائل ہیں، اس کو شیعہ باطل قرار دیتے ہیں کیونکہ عقیدہ تناخ سے قرآن کریم اور حدیث مطہرہ کی تکذیب لازم آتی ہے۔

۹۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کی آخری فرد اور ان سب سے افضل نبی حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں، جنہیں خداوند متعال نے ہر خطا اور لغزش سے محفوظ رکھا اور ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ سے معصوم قرار دیا چاہے وہ قبل نبوت ہو یا بعد نبوت، چاہے تبلیغ کا مرحلہ ہو یا تبلیغ کے علاوہ کوئی اور کام ہو، اور ان کے اوپر قرآن کریم نازل کیا، تاکہ وہ حیات بشری کیلئے ایک دائمی دستور العمل قرار پائے، پس رسول اسلام نے رسالت کی تبلیغ کی اور امانت کو صداقت و اخلاص کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس اہم اور قیمتی راستے میں ہر ممکن کوشش کی، شیعہ حضرات کے یہاں رسول اسلام کی شخصیت، آپ کے خصوصیات، معجزات اور آپ کے حالات سے متعلق سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔

بطور نمونہ دیکھئے: کتاب "الارشاد" مؤلفہ شیخ مفید، اعلام الوری، اعلام الہدی؛ مؤلفہ طبری، موسوعہ (معجم)، بحار الانوار؛ مؤلفہ علامہ مجلسی، اور موجودہ دور کی، موسوعۃ الرسول المصطفیٰ؛ مؤلفہ محسن خاتمی.

۱۰۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر جبرئیل امین کے ذریعہ نازل ہوا، جسے کچھ بزرگ صحابہ نے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دور نبوت میں ہی آپ کے حکم سے تدوین کیا، جن میں سرفہرست حضرت علی بن ابی طالبؓ ہیں، ان حضرات نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس کو لفظ بہ لفظ بھی یاد کیا اور اس کے حروف و کلمات نیز سورے اور آیات کی تعداد بھی مشخص اور معین کر دی۔

اس طرح یہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک منتقل ہوتا آ رہا ہے، اور آج مسلمانوں کے تمام فرقے رات و دن اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی اور نہ ہی کوئی کمی، یہ ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے محفوظ ہے، شیعہ حضرات کے یہاں اس بارے میں بھی متعدد چھوٹی اور بڑی کتابیں موجود ہیں۔ (۱)

۱۱۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے حضرت علیؑ کو تمام مسلمانوں کی رہبری کیلئے اپنا خلیفہ اور لوگوں کے لئے امام کے طور پر منصوب کیا، تاکہ علیؑ ان کی سیاسی قیادت اور فکری راہنمائی فرمائیں، اور ان کی مشکلوں کو حل کریں، اور ان کے نفوس کا تزکیہ اور ان کی تربیت کریں، اور یہ سب خدا کے حکم سے مقام غدیر خم میں رسول کی حیات کے آخری دور اور حج آخر کے بعد، ان مسلمان حاجیوں کے جم غفیر کے درمیان انجام پایا جو آپ کے ساتھ اسی وقت حج کر کے واپس آ رہے تھے، جن کی تعداد بعض روایات کی بنا پر ایک لاکھ تک پہنچتی ہے، اور اس مناسبت پر متعدد آیتیں نازل ہوئیں۔ (۲)

(۱) تاریخ قرآن؛ زنجانی، التمهید فی علوم القرآن؛ مؤلفہ محمد ہادی معرفت، وغیرہ وغیرہ۔

(۲) ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ سورہ مائدہ، آیت ۶۷۔  
دوسری آیت: یہ آیت بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی:

اس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے علیؑ کے ہاتھوں پر لوگوں سے بیعت طلب کی، چنانچہ تمام لوگوں نے علیؑ کی بیعت کی اور ان بیعت کرنے والوں میں سب سے آگے مہاجرین و انصار کے بزرگ اور مشہور صحابہ تھے، مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: کتاب "الغدیر" جس میں علامہ امینی نے مسلمانوں کے تفسیری اور تاریخی مصادر و ماخذ سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔

۱۲۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ چونکہ رسول اکرم ﷺ کے بعد امام کی ذمہ داری وہی ہے جو نبی کی ہوتی ہے جیسے امت کی قیادت و ہدایت، تعلیم و تربیت، تبیین احکام اور ان کی مشکلات کا حل کرنا، نیز سماجی اہم امور کا حل کرنا، لہذا یہ ضروری ہے کہ امام اور خلیفہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس پر بھروسہ اور اعتبار کرتے ہوں، تاکہ وہ امت کو امن و امان کے ساحل تک پہنچا جاسکے، پس امام تمام صلاحیتوں اور صفات میں نبی جیسا ہونا چاہیے، (جیسے عصمت اور وسیع علم) کیونکہ امام کے فرائض بھی نبی کی طرح ہوتے

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ سورہ مائدہ، آیت ۳۔  
﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا، مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ﴾ سورہ مائدہ، آیت ۳۔  
نیز یہ آیت بھی اسی سلسلے کی تھی ہے:  
﴿سَلِّ سَائِلَ بَعْدَ آبِ وَأَقِ ☆ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ سورہ معارج، آیت ۲۔

ہیں، البتہ وحی اور نبوت کے علاوہ، کیونکہ نبوت حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ پر ختم ہو گئی، آپ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، نیز آپ کا دین خاتم الادیان، اور آپ کی شریعت خاتم الشرائع اور کتاب خاتم الکتب ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی، اور نہ آپ کے دین کے بعد کوئی دین، اور اسی طرح نہ آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت آئیگی۔ (شیعوں کے پاس اس میدان میں بھی متعدد اور متنوع ضخیم اور فکری و استدلالی کتابیں موجود ہیں،)

۱۳۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امت کو سیدھی راہ پر چلانے والے معصوم قائد اور ولی کی ضرورت اس بات کی منتفی اور طلبگار ہے کہ رسول کے بعد امامت اور خلافت کا منصب صرف علی پر ہی نہ ٹھہر جائے، بلکہ قیادت کے اس سلسلے کو طویل مدت تک قائم رہنا ضروری ہے، تاکہ اسلام کی جڑیں مضبوط اور اس کی بنیادیں محفوظ ہو جائیں، اور جو خطرات اس کے اصول اور قواعد ہی کو نہیں بلکہ ہر الہی عقیدے، اور خدائی نظام کے سامنے منہ کھولے کھڑے ہیں ان سے اس کو بچایا جاسکے اور اس کے لئے تمام ائمہ (مختلف و متعدد دور میں امت کی رہبری کر کے اپنی سیرت، تجربات اور مہارت کا) ایسا عملی نمونہ اور پروگرام پیش کر سکیں جس کی مدد سے تمام حالات میں بعد میں چلتی رہی۔

۱۴۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ نے اسی سبب اور اسی بلند پایہ حکمت کی بنا پر اللہ کے حکم کی خاطر علی علیہ السلام کے بعد گیارہ امام معین

فرمائے، لہذا حضرت علی علیہ السلام کو ملا کر کل بارہ امام ہیں، جیسا کہ ان کی تعداد کے بارے میں نبی اکرم کی حدیثوں میں وضاحت کے علاوہ تذکرہ بھی ہے کہ ان سب کا تعلق قبیلہ قریش سے ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ البتہ ان کے اسماء اور خصوصیات کا تذکرہ نہیں ہے:-

”.....عن رسول اللہ ﷺ بان الـدین لایزال ماضیا/ قائما/ عزیزا/ منیعاً ما کان فیہم اثنا عشر امیراً أو خلیفة، کلہم من قریش“

بخاری اور مسلم دونوں نے رسول خدا سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: بیشک دین اسلام اس وقت تک غالب، قائم اور مضبوط رہے گا جب تک اس میں بارہ امیر یا بارہ خلیفہ رہیں گے، یہ سب قریش سے ہوں گے۔

(بعض نسخوں میں بنی ہاشم بھی آیا ہے، اور کتب صحاح ستہ کے علاوہ دوسری کتب فضائل و مناقب و شعر و ادب میں ان حضرات کے اسماء بھی مذکور ہیں۔)

یہ احادیث اگرچہ اثنا عشر (جو کہ علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہم السلام ہیں) کے بارے میں پرنص نہیں ہیں لیکن یہ تعداد اسی پر منطبق ہوتی ہے جو شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی مگر صرف وہی جو شیعہ کہتے ہیں۔ (۱)

۱۵۔ شیعوں کا جعفری فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ اثنا عشر (بارہ اماموں) سے مراد

(۱): خلفاء النبی، مؤلفہ حازمی، بحرانی

حضرت علی ابن ابیطالب جو رسول کے چچا زاد بھائی اور آپ کی بیٹی فاطمہ زہراؑ کے شوہر ہیں۔

اور حسن اور حسین ہیں (جو علی و فاطمہ کے بیٹے اور سبط رسول اسلام ﷺ ہیں)۔  
زین العابدین علی بن الحسین (الاسجاد)۔

اس کے بعد:

امام محمد بن علی (الباقر)

امام جعفر بن محمد (الصادق)

امام موسیٰ بن جعفر (الکاظم)

امام علی بن موسیٰ (الرضا)

امام محمد بن علی (الجواد القی)

امام علی بن محمد (الہادی)

امام حسن بن علی (العسکری)

امام محمد بن الحسن (المہدی الموعود المنتظر) علیہ السلام ہیں۔ (۱)

(۱) یا تحقیق عرب و عجم کے (غیر شیعہ) ممتاز شعراء نے ایسے مفصل قصیدے کہے ہیں جن میں بارہ اماموں کے مکمل نام مذکور ہیں، جیسے ان شعراء کے: ہسکلی، ابن طولون، فضل بن روز بہان، جانی، عطار نیشاپوری، مولوی کے قصیدے، یہ سب مذہب امام ابوحنیفہ اور امام شافعی وغیرہ کے پیرو ہیں، یہاں ہم نمونہ کے طور پر ان میں سے دو قصیدے ذکر کر رہے ہیں:

یہی وہ اہل بیت ہیں جنہیں رسول خدا ﷺ نے بحکم خدا، امت اسلام کا قائد قرار

دیا پہلا قصیدہ جناب ہسکلی حنفی کا ہے جن کا شمار چھٹی صدی ہجری کے علماء میں ہوتا ہے، کہتے ہیں:

حیدر قو الحسنان بعدہ :: ثم علی وابنه محمد

اول (امام علی) حیدر اور اس کے بعد ان کے بیٹے امام حسن اور حسین ہیں۔

وجعفر الصادق وابن جعفر :: موسیٰ، ویتلوہ علی السید

اس کے بعد جعفر صادق اور ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں، اور ان کے بعد سید و سردار علی ہیں۔

اعنی الرضائم ابنہ محمد :: ثم علی وابنه المسدد

جنہیں امام رضا کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ کے بعد آپ کے فرزند محمد (قی) پھر علی، اور ان کے راست گو بیٹے۔

الحسن التالی ویتلو تلوہ :: محمد بن الحسن المعتقد

یعنی حسن (عسکری) ہیں، اور ان کے فوراً بعد آپ کے بیٹے امام محمد (مہدی آخر الزمان) ہیں، انہی حضرات کے بارے میں عقیدہ رکھتی ہے۔

قوم ہم انمضی و سادتی :: اسمانہم مسرود لا تنطرد

ایک قوم، لیکن میرے امام اور سردار ہیں، جن کے اسماء باہم ایسے پیوستہ ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی جھوڑا نہیں جاسکتا۔

ہم حجج اللہ علی عبادہ :: وہم الیہ منہج و مقصد

وہ اللہ کے بندوں پر اس کی حجت ہیں، اور وہ اس تک پہنچنے کا راستہ اور مقصد ہیں۔

ہم النهار صوم لربہم :: وفی الدیاجی رقع و مسجد

وہ دنوں میں اپنے رب کیلئے روزے رکھتے ہیں، رات کی تارکین میں رکوع و سجود



دیا، کیونکہ یہ تمام خطاؤں اور گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، یہی حضرات اپنے

مشغول رہتے ہیں۔

دوسرا عقیدہ جناب شمس الدین محمد بن طولون کا ہے جن کا دسویں صدی ہجری کے علماء میں شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں:

عليك بالائمة الاثني عشر :: من آل البيت المصطفى خيرا البشر  
تم بارہ اماموں سے وابستہ رہو، جو کہ مصطفیٰ خیر البشر کی آل ہیں۔

ابو تراب حسن حسین :: وبعض زین العابدین شین  
ابو تراب (علی) حسن، حسین اور زین العابدین کا بغض برا ہے۔

محمد الباقر کم علم درى :: والصادق ادع جعفرأبين الورى

محمد باقر جنھوں نے علم کے کتنے ہی باب کو کھولے، اور صادق ہیں جنھیں جعفر کے نام سے دنیا میں پکارو۔

موسى هو الكاظم وابنه على :: لقبه بالرضا وقدره على

موسیٰ جو کہ کاظم ہیں، اور ان کے بیٹے علی جن کا لقب رضا ہے، اور ان کی قدر و منزلت بلند ہے۔

محمد التقى قلبه معموراً على النقى دره منشور

محمد تقی ہیں جن کا دل اسرار الہی سے معمور ہے، اور علی نقی ہیں جن کی خوبیاں چاروں طرف پھیلی ہوئیں ہیں۔

والعسكري الحسن المطهر :: محمد المهدي سوف يظهر

اور حسن عسکری پاک و پاکیزہ ہیں، اور امام محمد مہدی ہیں جو عنقریب ظاہر ہوں گے۔

دیکھیے: کتاب "الائمة الاثنا عشر" مؤلفہ مؤرخ دمشق شمس الدین محمد ابن طولون متوفی ۹۵۳ھ

تحقیق: ڈاکٹر صلاح الدین السجد، مطبوعہ: بیروت، لبنان۔

جد کے وسیع علم کے وارث ہیں، ان کی مودت اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (۱)

اے رسول! آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (۲)

اے ایماندارو! تقویٰ اختیار کرو اور بچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

دیکھیے: کتب حدیث و تفسیر، اور فضائل میں فریقین کے نزدیک جو صحیح اور دوسری کتابیں ہیں۔

۱۶- شیعہ جعفری فرقہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ائمہ اطہار وہ ہیں جن کے دامن پر تاریخ

نہ ان کے کوئی لغزش لکھی سکی اور نہ کسی خطا کا دھبہ ثابت کر پائی، نہ قول میں اور نہ عمل

میں، انھوں نے اپنے وافر علوم کے ذریعہ امت مسلمہ کی خدمت کی ہے، اور اپنی عمیق

معرفت، سالم فکر کے ذریعہ، عقیدہ و شریعت، اخلاق و آداب، تفسیر و تاریخ اور مستقبل

کے لائحہ عمل کو صحیح جہت عطا کی ہے، اور ہر میدان میں اسلامی ثقافت کو محفوظ کر دیا

ہے جیسے انھوں نے۔ اپنے قول اور عمل کے ذریعہ۔ چند ایسے منفرد اور ممتاز، نیک سیرت

(۱) سورہ شوری، آیت ۲۳۔

(۲) سورہ توبہ، آیت ۱۱۹۔

اور پاک کردار مردوں اور عورتوں کی تربیت کی ہے، جن کے فضل و علم، اور حسن سیرت کے سب لوگ قائل ہیں۔

اور شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگرچہ (یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ) امت اسلامیہ نے ان کو سیاسی قیادت سے دور رکھا، لیکن انہوں نے پھر بھی عقائد کے اصولوں اور شریعت کے قواعد و احکام کی حفاظت کر کے اپنی فکری اور اجتماعی ذمہ داری کو بہترین طریقہ سے ادا کی ہے۔

چنانچہ ملت مسلمہ اگر انہیں سیاسی قیادت کا موقع دیتی جسے رسول اسلام نے خدا کے حکم سے ان کو سونپا تھا، تو یقیناً اسلامی امت سعادت و عزت اور عظمت کا ملہ حاصل کرتی، اور یہ امت متحد و متفق، متوحد رہتی، اور کسی طرح کا شقاق، اختلاف، نزاع، لڑائی، جھگڑا، کشت و کشتار اور زلت و رسوائی نہ دیکھنا پڑتی۔

اس سلسلے میں کتاب ”الامام الصادق والمداہب الاربعہ“ کی تین جلدی، اور دوسری کتابیں دیکھئے۔

۱۷۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مذکورہ وجہ اور عقائد کی کتابوں میں پائی جانے والی نقلی و عقلی کثیر ادلہ کی بنا پر کہ اہل بیت کی اتباع واجب ہے، اور ان کے راستے اور طریقے کو اپنانا ضروری ہے، کیونکہ انہیں کا طریقہ وہ طریقہ ہے جسے امت کیلئے رسول نے معین فرمایا، اور ان سے تمسک کرنے کا حدیث ثقلین (جو متواتر ہے) حکم دیتی ہے، جیسا کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”انہی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیٹی ما ان تمسکم بہما لن تضلوا ابداً“

جسے صحیح مسلم اور دیگر سیوں مسلم علماء و محدثین نے ہر صدی میں نقل کیا ہے، دیکھئے: رسالہ حدیث ثقلین؛ (مؤلفہ و شنوی) جس کی تصدیق ازہر شریف نے ۳۰ رسال قبل کی تھی۔

اور گزشتہ انبیاء کی حیات میں بھی خلیفہ اور وصی بنانے کا یہی معمول تھا۔ دیکھئے: اثبات الوصیہ؛ مؤلفہ مسعودی، اور فریقین کی دیگر کتب احادیث و تفسیر و تاریخ۔

۱۸۔ جعفری شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت اسلامیہ (اللہ اس کو عزیز رکھے) پر یہ واجب ہے کہ وہ ان امور میں تحقیق اور بحث و مباحثہ کرے لیکن کسی پر سب و شتم، الزام و اتہام، اور کسی کو ڈرائے اور دھمکائے بغیر، اور تمام اسلامی فرقوں کے علماء و مفکرین پر لازم ہے کہ وہ علمی اجتماع میں شرکت کریں، اور صفاء و اخلاص کے ساتھ گفتگو کریں، اور اپنے شیعہ مسلمان بھائیوں کے ان نظریات پر غور و خوض کریں جن پر وہ قرآن صحیح متواتر سنت، تاریخی مجاہدہ (دلائل) اور رسول اور آنحضرت کے بعد کے سیاسی و سماجی پس منظر کے مطابق، استدلال پیش کرتے ہیں۔

۱۹۔ اور شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ اور جو لوگ رسول کے ساتھ تھے چاہے وہ عورت ہوں یا مرد، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، نشر اسلام کی راہ میں اپنی

جان و مال کی قربانی دی ہے، لہذا تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کا احترام کریں، اور ان کی گرفتار خدومات کا اعتراف کریں۔

لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تمام صحابہ (بطور اطلاق) عادل تھے، اور ان کے بعض اعمال یا نظریات، تنقید اور اعتراض سے مافوق ہیں، کیونکہ صحابہ بھی بشر ہیں اور ان سے بھی غلطی اور بھول چوک ہوتی ہے، چنانچہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ان میں سے بعض حضرات راہ مستقیم سے دور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ خود آنحضرت ﷺ کے دور میں ہی آپ کے راستے سے دور ہو گئے، بلکہ قرآن مجید نے اپنی بعض آیات اور سورتوں میں جیسے سورہ منافقین، احزاب، حجرات، تحریم، فتح، محمد اور توبہ میں اس بات کی تصریح کی ہے۔

لہذا ان بعض صحابہ حضرات کے اعمال پر جائز اور مہذب انداز میں تنقید کرنا ہرگز کفر کا سبب نہیں قرار پاسکتا، کیونکہ کفر و ایمان کا معیار واضح ہے، اور ان دونوں کا محور و مرکز روشن ہے، اور وہ توحید و رسالت اور ضروریات دین جیسے وجوب نماز، روزہ، حج اور حرمت خمر و میسر جیسی چیزوں کو ماننا، اور اس کا انکار کرنا ہے، البتہ قلم اور زبان کو بد تمیزی اور بھونڈی باتوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ باتیں ایک مہذب مسلمان جو سیرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر عمل پیرا ہے اس کیلئے زیب نہیں دیتی، بہر حال اس کے باوجود اکثر صحابہ صالح اور مصلح تھے، جو لائق احترام اور مستحق اکرام ہیں۔

لیکن اس کے باوجود صحابہ کو جرح و تعدیل (عادل یا غیر عادل ثابت کرنے) کے قواعد پر اس لئے تو لا جاتا ہے تاکہ صحیح اور قابل اعتماد سنت سے واقفیت حاصل ہو جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا کے جانے کے بعد آپ کی طرف بہت زیادہ کذب اور بہتان منسوب کیا گیا، (جیسا کہ یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں اور خود رسول نے اس بات کے واقع ہونے کی خبر بھی دی تھی) اور اس بات کے بارے میں دونوں فریق کے علماء حضرات نے اہم کتابیں لکھی ہیں، جیسے سیوطی اور ابن جوزی وغیرہ، تاکہ وہ احادیث جو واقعاً رسول سے صادر ہوئیں ہیں ان کے درمیان اور جو حدیثیں گڑھ کر آپ کی طرف منسوب کی گئی ہیں ان کے درمیان امتیاز پیدا ہو سکے۔

۲۰۔ شیعہ! امام مہدی منتظر کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس بارے میں کثیر روایات رسول اسلام سے نقل ہوئیں ہیں کہ وہ اولادِ دفاطمہ سے ہوں گے، اور امام حسینؑ کے نوین فرزند ہیں، کیونکہ امام حسینؑ کے آٹھویں فرزند (آٹھویں پشت میں) امام حسن عسکری ہیں جن کی وفات ۲۶۰ھ میں ہوئی، اور آپ کو خدا نے صرف ایک بیٹا عنایت کیا تھا جس کا نام محمد تھا چنانچہ آپ ہی امام مہدی ہیں جن کی کنیت ابو القاسم ہے۔ (۱)

(۱) عامہ کی صحاح ستہ اور ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا:

”سیظہرفی آخر الزمان رجل من ذریبئ اسمہ اسمی، وکنیہ کنیبئ، بملأ الارض عدلاً وفسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً“

آپ کو موثق مسلمانوں نے دیکھا ہے، اور آپ کی ولادت، خصوصیات اور امامت نیز آپ کی امامت پر آپ کے والد کی طرف سے نص کی خبر دی ہے، آپ اپنی ولادت کے پانچ سال بعد لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے، کیونکہ دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن خداوند متعال نے آپ کو اس لئے ذخیرہ کر کے رکھا ہے تاکہ آخری زمانے میں عدل و انصاف پر مبنی اسلامی حکومت قائم کریں، اور زمین کو ظلم و فساد سے پاک کر دیں بعد اس کے کہ وہ اس سے بھری ہوئی ہوگی۔

اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں کہ آپ کی عمر اس قدر طولانی کیسے ہو گئی؟ کیونکہ قرآن مجید اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر دے رہا ہے، جبکہ ان کی ولادت کو اس وقت ۲۰۰۵ سال ہونے چاہتے ہیں، اسی طرح حضرت نوح اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال زندہ رہے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اور حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کی مشیت پوری ہونے والی ہے، جسے کوئی نال نہیں سکتا، کیا اس نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ہے:

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَمَا لَنَبَّ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ بَوْمٍ

آخری زمانے میں میری ذریت سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا، اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔

يَعْتُونَ ﴿١﴾

پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو روز قیامت تک اسی کے شکم میں رہ جاتے۔

چنانچہ اہل سنت کے اکثر بزرگ اور جلیل القدر علماء امام مہدی (عج) کی ولادت اور ان کے وجود کے قائل ہیں، اور انہوں نے ان کے اوصاف و والدین کے نام کا ذکر کیا ہے، مثلاً:

الف۔ عبدالمؤمن شہلجی اپنی کتاب ’نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار‘ میں۔

ب۔ ابن حجر بیہقی کی شافعی نے اپنی کتاب ’الصواعق المحرقة‘ میں کہتے ہیں: ابو القاسم محمد الحججہ کی عمران کے والد کی وفات کے وقت پانچ سال کی تھی لیکن خدا نے اسی سن میں آپ کو حکمت عطا کی اور ان کا نام قائم منتظر ہے۔

ج۔ قدوزی حنفی بلخجی نے اپنی کتاب ’ینایح المؤدۃ‘ میں اس کا تذکرہ کیا ہے جو دور خلافت عثمانیہ ترکی میں (استانہ) سے شائع ہوئی تھی۔

د۔ سید محمد صدیق حسن قنوجی بخاری نے اپنی کتاب ’الاذنۃ لماکان وما یکون بین یدری السائۃ‘ میں اسے لکھا ہے۔

یہ ہیں متقدمین علماء کے اقوال، اور متاخرین میں سے ڈاکٹر مصطفیٰ رافعی نے اپنی

کتاب ”اسلامنا“ میں لکھا ہے، چنانچہ جب انھوں نے مسئلہ ولادت کی بحث کی ہے تو بڑی طول و تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اور اس بارے میں ان تمام اعتراضات اور شبہات کے جواب دئے ہیں جو اس مقام پر ذکر کئے جاتے ہیں۔

۲۱۔ جعفری فرقہ والے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اپنے مال میں سے زکات و خمس ادا کرتے ہیں، اور مکہ مکرمہ جا کر ایک بار بطور واجب حج بیت اللہ الحرام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مستحب عمرہ و حج ادا کرتے رہتے ہیں، اور نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور اولیائے خدا و رسول سے محبت کرتے ہیں، اور خدا و رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں ہر اس کافر و مشرک سے جہاد کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہو، اور ہر اس حاکم سے جنگ کرتے ہیں، جو قہر و غلبہ کے ذریعہ امت مسلمہ پر مسلط ہو گیا ہے، اور دین اسلام (جو کہ دین حنیف ہے) کی موافقت کرتے ہوئے تمام اقتصادی، سماجی اور گھریلو مشغلوں اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، جیسے تجارت، اجارہ، نکاح، طلاق، میراث، تربیت و پرورش، رضاعت اور حجاب وغیرہ۔ اور ان سب چیزوں کے احکام کو اجتہاد کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں، جنہیں متقی اور پرہیزگار علماء، کتاب و صحیح سنت اور اہل بیتؑ سے ثابت شدہ احادیث اور عقل و اجماع کے ذریعہ استنباط کرتے ہیں۔

۲۲۔ اور شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام یومیہ فرائض کے اوقات معین ہیں، اور یومیہ

نماز کے لئے پانچ وقت ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور افضل یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے مخصوص وقت میں انجام دیا جائے، مگر یہ کہ نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول خدا ﷺ نے کسی عذر، مرض، بارش اور سفر کے بغیر ان نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی سہولت کیلئے کیا گیا ہے خاص طور سے ہمارے زمانے میں ایک فطری اور عام بات ہے۔

۲۳۔ شیعہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح اذان دیتے ہیں، البتہ جب جملہ ”حی علی الفلاح“ آتا ہے تو اس کے بعد جملہ ”حی علی خیر العمل“ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ رسول خدا ﷺ کے دور میں یہ حصہ اذان میں کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر نے اپنے اجتہاد کی بنا پر اس کی یہ علت بتاتے ہوئے کہ چونکہ اس سے مسلمان جہاد کرنے سے رک جائیں گے اس کو اذان سے حذف کر دیا، ان کا کہنا تھا کہ مسلمان اس سے یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ نماز ہی بہترین عمل ہے، لہذا جہاد کی طرف پھر کوئی رغبت نہیں کریگا، اس لئے اسے اذان سے حذف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ جیسا کہ علامہ قوشچی اشعری نے اپنی کتاب ”شرح تجرید الاعتقاد“ میں اور المصنف میں، کندی، کنز العمال میں، متقی ہندی وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے ایک اور جملہ کا اضافہ کیا ہے: ”الصلاة خیر من النوم“ جبکہ یہ جملہ رسول اسلام کے زمانہ میں نہیں تھا۔ (دیکھئے: کتب حدیث و تاریخ) جبکہ عبادت اور اس کے مقدمات اسلام میں شارع

کے امر اور اس کے اذن پر موقوف ہیں، یعنی شریعت میں ہر عمل کیلئے قرآن اور سنت سے نص خاص یا نص عام موجود ہو، اور اگر کسی عمل کی نص نہ ہو تو وہ مردود اور بدعت ہے، جسے اسکے انجام دینے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ عبادت میں کسی چیز کی زیادتی یا کمی ممکن نہیں ہے، بلکہ تمام شرعی امور میں کسی کی ذاتی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے، البتہ شیعہ حضرات جو ”اشہدان محمد رسول اللہ“ کے بعد ”اشہدان علیا ولی اللہ“ کہتے ہیں تو یہ ان روایات کی بنا پر ہے جو رسول خدا ﷺ اور اہل بیتؑ سے نقل کی گئی ہیں، اور ان میں یہ تصریح موجود ہے کہ محمد رسول اللہ کہیں ذکر نہیں ہوا، یا باب جنت پر نہیں لکھا گیا مگر اس کے ساتھ علی ولی اللہ ضرور تھا، اور یہ جملہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شیعہ علی کو نبی بھی نہیں سمجھتے چہ جائیکہ وہ آپ کی ربوبیت اور الوہیت کا (العیاذ باللہ) عقیدہ رکھتے ہوں، لہذا توحید و رسالت کی شہادت کے بعد تیسری شہادت (علی ولی اللہ) کہنا جائز ہے، اس امید میں کہ یہ بھی مطلوب پروردگار ہو، البتہ اس کو جزء اور وجوب کے قصد سے انجام نہ دے، یہی شیعوں کے اکثر علماء کا فتویٰ ہے۔

پس یہ زیادتی بغیر قصد جزئیت کے انجام دی جائے گی، جیسا کہ ہم نے کہا ہے، لہذا یہ ایسا نہیں کہ شرع میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، اس لئے یہ بدعت ہے۔

۲۳۔ اور شیعہ زمین اور مٹی یا کنگو اور پتھر یا زمین کے اجزاء اور نباتات وغیرہ پر سجدہ کرتے ہیں، اور درزی، قالین یا چادر اور کپڑے اور کھائی جانے والی چیزوں اور

زیورات پر سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سلسلے میں کثیر تعداد میں شیعہ و سنی کتابوں میں روایتیں وارد ہوئیں ہیں، کیونکہ رسول خدا ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مٹی اور زمین پر سجدہ کرتے تھے، بلکہ آپ مسلمانوں کو حکم بھی یہی دیتے تھے، چنانچہ ایک روز جناب بلال نے اپنے عمامے کی کور پر جلا دینے والی گرمی سے بچنے کی بنا پر سجدہ کیا، تو رسول اسلام نے بلال کے عمامہ کو پیشانی سے الگ کر دیا، اور فرمایا:

”ترب جبینک یا بلال“

اے بلال! اپنی پیشانی کو زمین پر رکھو؟

اسی طرح کی روایت صحیب اور رباح کے بارے میں نقل کی گئی ہے، جب فرمایا:

”ترب وجھک یا صحیب او ترب وجھک یا رباح“

اے صحیب اور اے رباح! اپنی پیشانی کو زمین پر رکھو؟

دیکھئے: صحیح بخاری و کنز العمال یا المصنف؛ مؤلفہ عبد الرزاق الصنعانی، یا السجو و علی الارض؛ مؤلفہ کاشف الغطاء۔

اور نبی اکرمؐ نے اس جگہ یہ ارشاد فرمایا: (جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں آیا ہے۔)

”جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً“

میرے لئے زمین کو مسجد اور طہرہ و مطہر بنایا گیا ہے۔

اور پھر مٹی پر سجدہ کرنا اور پیشانی کو زمین پر رکھنا یہی خدا کے سامنے سجدہ کرنے کا سب سے مناسب طریقہ ہے، کیونکہ معبود کے سامنے خمیہ خمیہ اور خضوع و خشوع کا

سے اچھا طریقہ ہے، اسی طرح خاک پر سجدہ کرنا انسان کو اس کی اصل حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ وہ اسی سے وجود میں آیا ہے، کیا خدا نے نہیں فرمایا:

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (۱)

اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسی میں پلٹا کر لیجاؤ گے، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔

پیشک سجدہ خضوع کی آخری حد کا نام ہے، اور خضوع کی آخری منزل مصلیٰ (جائے نماز) فرش، کپڑے، اور قیمتی جواہر پر سجدہ کر کے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بدن کی اشرف ترین جگہ یعنی پیشانی کو پست ترین جگہ یعنی مٹی پر رکھے۔ (۲)

البتہ اس مٹی کو پاک ہونا چاہیے، اسی طہارت کی تاکید کی بنا پر شیعہ لوگ اپنے ساتھ مٹی کا پاک ڈھیلا (جیسے سجدہ گاہ وغیرہ) رکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مٹی تبرک کے طور پر مقدس جگہ سے لیتے ہیں، جیسے زمین کر بلا، جس میں فرزند رسول حضرت امام حسینؑ شہید کر دئے گئے، جیسا کہ بعض صحابہ مکہ کے کنکڑ اور پتھر وغیرہ کو سفر میں سجدے کیلئے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ (۳)

(۱) سورہ طہ ۵۵۔

(۳) دیکھئے: المصنف: صنعانی۔

(۲) دیکھئے: ایواقیت والجاہر؛ شعرانی انصاری مصری، جو دسویں صدی ہجری کے علماء میں سے

البتہ شیعہ نہ اس پر اصرار کرتے ہیں، اور نہ اس چیز پر ہمیشہ پابند رہتے ہیں، بلکہ وہ ہر پاک مٹی اور پتھر کے اوپر بغیر کسی اشکال اور تردد کے سجدہ کرتے ہیں، جیسے مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے فرش اور وہاں پر لگے ہوئے پتھر۔

اسی طرح شیعہ نماز میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہیں رکھتے، کیونکہ رسول اسلام نے نماز میں یہ کام انجام نہیں دیا، اور یہ بات قطعی نص صریح سے ثابت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ سنی مالکی حضرات بھی یہ فعل انجام نہیں دیتے ہیں۔ (۱)

۲۵۔ شیعہ فرقہ وضو میں دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب سے کہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک دھوتے ہیں، اور اس کے برخلاف نہیں کرتے، کیونکہ یہ طریقہ انھوں نے اپنے ائمہ سے اخذ کیا ہے، اور ائمہؑ نے اس کو رسول خدا ﷺ سے اخذ کیا ہے، اور اہل بیت اپنے جد کی باتوں کو دوسروں سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے جد یہ کام کیسے کیا کرتے تھے، جیسا کہ رسول خدا ﷺ بھی اسی طرح انجام دیتے تھے، اور انھوں نے آیہ وضو کی یہ تفسیر کی ہے کہ ”الہی“ آیہ وضو: (۲)

میں ”مع“ کے معنی میں آیا ہے، جیسا کہ شافعی صغیر نے اپنی کتاب نہایت المحتاج میں یہی ذکر کیا ہے اسی طرح یہ لوگ اپنے پیروں اور سر کو دھونے کے بجائے ان کا مسح

(۱) دیکھئے: صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن بیہقی۔

مالکیوں کے رائے سے آگاہی کیلئے دیکھئے: بدایۃ المجتہد ”مولفہ ابن رشد قرطبی۔

(۲) سورہ مائدہ، آیت ۶۔

کرتے ہیں، جس کا سبب ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اور یہی طریقہ ابن عباس کا تھا جیسا کہ انہوں نے کہا ہے:

”الوضو غسلتان، ومسحتان“ او مغسولان وممسوحان“

وضو صرف دو چیزوں کا دھونا ہے اور دو ہی چیزوں کا مسح کرنا ہے۔

(دیکھئے: سنن، مسانید، تفسیر فخر رازی، آیہ وضو کی تفسیر کے ذیل میں)۔

۲۶۔ شیعہ کہتے ہیں کہ متعہ (وقتی شادی) کرنا نص قرآنی کی بنا پر جائز ہے، کیونکہ خدا ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (۱)

پس جو بھی ان عورتوں سے تمتع کرے ان کی اجرت انہیں بطور فریضہ دے دے۔

یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان رسول کے زمانے میں متعہ کرتے تھے، اور تمام صحابہ عہد خلافت حضرت عمر کے نصف دور تک متعہ کرتے تھے۔

کیونکہ متعہ بھی شرعی شادی ہے جو دائمی شادی کے مندرجہ ذیل احکام میں بالکل اسی کی طرح ہے:

الف:- متعہ میں بھی عورت شوہر دار نہ ہونا چاہیے، اور صیغوں کا اسی طرح پڑھنا ضروری ہے کہ ایجاب عورت کی جانب سے اور قبول مرد کی طرف سے ہو۔

ب:- دائمی شادی کی طرح متعہ میں بھی عورت کو کچھ مال دینا ضروری ہے جسے

دائمی شادی میں مہر کہتے ہیں، اور متعہ میں اجرت کہتے ہیں، جیسا کہ قرآنی نص کے مطابق ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔

ج:- دائمی شادی کی طرح متعہ میں بھی مرد سے جدا ہونے کی صورت میں عورت پر عدہ رکھنا ضروری ہے۔

د:- متعہ میں بھی مفارقت کے بعد عورت پر دائمی عقد کی طرح عدہ ضروری ہے، اسی طرح متعہ سے وجود میں آنے والی اولاد بھی دائمی شادی کی طرح متعہ کرنے والے مرد (باپ) سے ملحق ہوگی، نیز متعہ میں بھی دائمی عقد کی طرح عورت ایک مرد سے زیادہ مردوں سے ایک وقت میں متعہ نہیں کر سکتی۔

ه:- متعہ میں دائمی عقد کی طرح باپ اور اولاد نیز اولاد اور ماں کو ایک دوسرے کی میراث ملے گی۔

متعہ؛ دائمی شادی سے حسب ذیل چند امور میں فرق کرتا:

الف:- متعہ میں مدت معین ہوتی ہے، لیکن دائمی شادی میں مدت معین نہیں ہوتی۔  
ب:- متعہ والی عورت کا نفقہ مرد پر واجب نہیں ہے، عورت مرد سے میراث لینے کا حق نہیں رکھتی۔

ج:- متعہ کرنے والے زوجہ و شوہر کے درمیان میراث نہیں ہوتی۔

د:- متعہ میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مقررہ مدت تمام ہونے کے بعد یا طرفین کے اتفاق سے بقیہ مدت بخشنے کے بعد خود بخود جدائی ہو جائے گی۔



اس طرح کی شادی کی تشریح کرنے کی چند حکمت ہیں:

اولاً: جائز اور مشروع طریقہ سے عورت و مرد کی جنسی احتیاج کا راستہ فراہم کرنا ہے، تاکہ جو لوگ بعض اسباب کی بنا پر دائمی شادی نہیں کر سکتے، یا جو لوگ زوجہ کی وفات یا کسی اور سبب کی بنا پر عورت سے محروم ہو چکے ہیں، یا عورت ان اسباب کی بنا پر مرد سے محروم ہو گئی ہو، اور یہ لوگ زندگی کو شرافت اور راحت کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں تو متعہ ان کیلئے آسان راستہ ہے۔

ثانیاً: متعہ دراصل سماجی عظیم مشکلات کو حل کرنے کیلئے تشریح کیا گیا ہے تاکہ اسلامی معاشرہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا نہ ہو پائے۔

کبھی اس متعہ کے ذریعہ انسان شادی سے پہلے جائز طریقہ سے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان سکتا ہے، (جو ممکن ہے آئندہ کیلئے مفید اور نتیجہ بخش ہو) اور اس کے بعد انسان فعل حرام میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح زنا، جنسی دباؤ اور رسوائی یا دوسرے حرام امور میں مبتلا نہ ہو، جیسے مشیت زنی، کیونکہ جو ایک زوجہ پر صبر نہیں کر سکتا، یا اقتصادی اور معیشتی مشکلات کی بنا پر، یا ایک سے زیادہ عورتوں کا خرچہ نہیں چلا سکتا وغیرہ وغیرہ اور وہ حرام کام بھی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لئے یہ آسان راستہ ہے۔

بہر حال یہ شادی بھی قرآن اور حدیث سے مستند ہے، اور صحابہ نے اس پر ایک زمانے تک عمل کیا ہے، چنانچہ اگر یہ شادی زنا شمار کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ

خدا، رسول اور صحابہ نے زنا کو حلال سمجھا، اور اس کے انجام دینے والے ایک زمانے تک زنا کرتے رہے!! العیاذ باللہ.

مزید یہ کہ اس حکم کا نسخ ہونا بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کا نسخ ہونا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ کوئی قطعی و صریح دلیل اس پر موجود ہے۔ (۱)

بہر حال شیعہ امامیہ اس شادی کو نص قرآن اور سنت رسول کی بنا پر مباح سمجھتے ہیں، لیکن دائمی شادی اور تشکیل خانوادہ یعنی اپنا گھر آباد کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ایسی شادی قومی اور سالم معاشرے کی اساس اور بنیاد ہے، اور موقت شادی کی طرف زیادہ رغبت نہیں رکھتے جسے شریعت میں متعہ کہتے ہیں، اگرچہ (جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ) یہ حلال اور جائز ہے۔

اور اس مقام پر یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ شیعہ امامیہ (کتاب و سنت اور تعلیم ائمہ اہل بیتؑ پر عمل پیرا ہونے کی بنا پر) عورت کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، اور انہیں بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور عورت کے مقام و مرتبہ، ان کے حقوق بالخصوص ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے پر، ملکیت، نکاح، طلاق، گود لینے اور پرورش کرنے، دودھ پلانے جیسے مسائل کے ساتھ ساتھ، عبادات اور معاملات کیلئے نہایت اعلیٰ احکام، جو ان کے ائمہ سے نقل ہوئے ہیں وہ سب ان کی فقہ میں پائے جاتے ہیں.

(۱) اس سلسلے میں ان تمام احادیث کی طرف رجوع کیا جائے جو مختلف اسلامی مذاہب کی کتب صحاح و سنن اور معتبر مسانید میں نقل کی گئی ہیں.

۲۷۔ شیعہ جعفری فرقے زنا، لواط، سوخوری، نفس محترکہ کا قتل، شراب نوشی، جوا، بلوہ و بغاوت، مکرو فریب بازی، دھوکہ دھڑی، ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں کمی کرنا، غصب، چوری، خیانت، کینہ و کھوٹ، رقص و غنا، اتہام، بہتان، تہمت، چغل خوری، فساد پھیلانا، مومن کو اذیت دینا، غیبت کرنا، گالم گلوچ، کذب و بہتان اور ان کے علاوہ تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو حرام جانتے ہیں، اور ہمیشہ ان گناہوں سے دور رہتے ہیں اور حتی الامکان ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو پھیلنے سے روکنے کیلئے ہر ممکن وسائل بروئے کار لاتے ہیں، جیسے تصنیف و تالیف، کتابوں کی نشرو اشاعت کرنا، اخلاقی اور تربیتی رسالے، مجالس، اجتماع اور جلسے وغیرہ قائم کرنا، یا نماز جمعہ کے خطبے اور دوسری چیزیں وغیرہ.....

۲۸۔ اخلاقی فضائل اور مکارم اخلاق کی نہایت اہمیت دیتے ہیں، اور موعظہ وغیرہ سے عشق کرتے ہیں، اور ان کے سننے کیلئے دلچسپی سے حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے لئے اپنے گھروں، مسجدوں، پارکوں اور میدانوں میں جلسے، مجالس اور اجتماعات مناسبت یا غیر مناسبت کے مواقع پر منعقد کرتے ہیں، اسی بنا پر عظیم فوائد و مطالب پر مشتمل وہ دعائیں پڑھتے ہیں جو اس سلسلے میں رسول اسلام اور اہل بیت عصمت و طہارت سے نقل ہوئی ہیں، جیسے دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ، دعائے سات، دعائے جوشن کبیر، دعائے مکارم اخلاق، دعائے افتتاح، (جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے) وہ ان ادعیہ اور رافع مضامین پر مشتمل مناجات کو نہایت خشوع و خضوع اور ایک خاص

گر یہ وزارتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دعائیں نفس کو پاکیزہ بناتی ہیں اور ان کے ذریعہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔

یہ تمام دعائیں موسوعۃ الادعیہ (معجم ادعیہ) میں جمع کی گئی ہیں، اسی طرح یہ کتب ادعیہ میں بھی موجود ہیں جو ان کے درمیان رائج ہیں۔

۲۹۔ اور شیعہ نبی اکرم ﷺ، اہل بیت ﷺ اور آپ کی پاک ذریت جو جنت البقیع اور مدینہ منورہ میں مدفون ہیں ان کی قبروں کا احترام کرتے ہیں، جن میں امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، اور امام جعفر صادق ﷺ ہیں۔

اور نجف اشرف میں امام علیؑ کا مرقد ہے، اور کربلا میں امام حسینؑ اور آپ کے بھائی، آپ کی اولاد اور آپ کے چچا کی اولاد اور آپ کے اصحاب و انصار (جو آپ کے ساتھ یوم عاشورہ شہید ہوئے تھے) کی قبریں ہیں۔

اور سامرہ میں امام ہادی (علی نقی)، امام حسن عسکری کے روضے ہیں، اور کاظمین میں امام جواد اور امام کاظمؑ کے مراقد جو سب کے سب عراق میں ہیں، اور ایران کے شہر مشهد میں امام رضاؑ کا مرقد ہے، اور قم و شیراز (ایران) میں ان اماموں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے مرقد ہیں، اور دمشق (شام) میں کربلا کی شیر دل خاتون جناب سیدہ زینب کا روضہ ہے، اور قاہرہ مصر میں مرقد سیدہ نفیسہ ہے (یہ بھی کریمہ اہل بیت ہیں)۔

بہر حال ان تمام روضوں اور مقبروں کا احترام کرنا، بولنے کے پاکیزہ الفاظ کی

پر ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی اولاد میں باقی اور محفوظ رہتا ہے، اور کسی کی اولاد کا اکرام کرنا خود اس کا احترام کرنے کے برابر ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے آل عمران، آل یسین، آل ابراہیم اور آل یعقوب، کی مدح فرمائی ہے، اور ان کی قدر و منزلت کو رفیع قرار دیا ہے حالانکہ ان میں سے بعض انبیاء بھی نہیں تھے۔

﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ (۱)

یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے۔

اسی لئے قرآن مجید نے ان پر اعتراض نہیں کیا، جن لوگوں نے یہ کہا تھا:

﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مِّنْجِدًا﴾ (۲)

انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔

یعنی ہم اصحاب کہف کے مراقد پر مسجد بنائیں گے، تاکہ ان کے پاس خدا کی عبادت کی جائے، اور اللہ نے ان کے عمل کو شرک نہیں کہا، کیونکہ مسلمان مؤمن صرف اللہ ہی کیلئے رکوع، سجدہ اور عبادت کرتا ہے، اور وہ ان پاک و مطہر اولیاء کی ضریح کے قریب صرف اس لئے جاتا ہے کیونکہ ان اولیاء کی وجہ سے وہ مکان مقدس ہو گیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر مقام ابراہیم کو قدست و کرامت حاصل ہے، چنانچہ خدا فرماتا

(۱) آل عمران، آیت ۳۴۔

(۲) کہف، آیت ۲۱۔

ہے:

﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (۱)

اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلے بناؤ۔

پس جو شخص مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مقام ابراہیم کی عبادت کرتا ہے، یا جو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، وہ انھیں اللہ سمجھ کر نہیں آیا ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کی عبادت کر رہا ہو، بلکہ یہ اس لئے ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لئے مبارک و مقدس جگہ قرار دیا ہے، نتیجتاً وہ بھی آخر میں اللہ کی طرف منسوب ہیں، بیشک معین ایام اور جگہیں مقدس ہیں، جیسے یوم عرفہ، منی و عرفات کا میدان، اور ان کی قداست کی وجہ ان کا اللہ کی طرف منسوب ہونا ہے۔

۳۰۔ اسی سبب کی بنا پر شیعہ بھی (دیگر مسلمین کی طرح) شان رسول اکرم و آل رسول کے محافظ اور اس کا ادراک کرنے والے ہیں اہل بیت رسالت علیہم السلام کے مبارک روضوں کی بڑے اہتمام سے زیارت کرتے ہیں تاکہ اس سے ان کی تکریم ہو، اور ان سے عبرت حاصل کریں، اور ان کے ساتھ پھر سے عہد کریں، اور اس اقدار کی مزید پابندی کریں جس کیلئے انہوں نے جہاد کیا، اور اسی کی حفاظت میں شہید ہو گئے، کیونکہ ان مشاہد مقدسہ کے زائرین اپنی زیارتوں میں اہل مراقد کے فضائل اور ان کے جہاد ہی کا ذکر کرتے ہیں یا انہوں نے جو نمازیں قائم کیں اور زکاۃ ادا کی اس کا تذکرہ کرتے

(۱) سورہ بقرہ، آیت ۱۲۵۔

ہیں، نیز انہوں نے اس راستہ میں جو اذیتیں اور مشقتیں اٹھائیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ رسول خدا ﷺ کو اپنی مظلوم ذریت سے جو ہمدردی تھی اس کی وجہ سے آپ نے بھی ان کا غم منایا ہے جیسا کہ:

جناب حمزہ کی شہادت پر آنحضرت نے فرمایا:

”ولکن حمزة لا بواکھی له“ ہائے حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں؟! جیسا کہ کتب تاریخ و سیرت میں نقل کیا گیا ہے۔

کیا رسول خدا ﷺ نے اپنے عزیز بیٹے ابراہیم کی موت پر گریہ نہیں کیا؟ کیا آپ بقیع میں قبروں کی زیارت کرنے نہیں جاتے تھے؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا:

”زوروا القبور فانھا تذکروکم بالآخرة“ (۱)

قبروں کی زیارت کرو کیونکہ ان کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔

بیشک ائمہ اہل بیتؑ کی قبروں کی زیارت اور ان کی سیرت طیبہ اور راہ خدا میں ان کے جہادی کارنامے آئندہ نسل کو ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو ان ذوات مقدسہ نے اسلام اور مسلمین کے راستے میں پیش کی ہیں، اس سے ان کے اندر راہ خدا میں شہادت، شجاعت و جواں مردی اور ایثار و قربانی کی روح بیدار ہوتی ہے۔

بیشک یہ عمل انسانیت، تہذیب و تمدن اور عقل کے عین مطابق عمل ہے، کیونکہ تمام

سبکی شافعی کی کتاب: شفاء السقام، ص ۷۷ پر اور اسی کی مثل سنن ابن ماجہ جلد ۱، صفحہ ۷۷ میں نقل ہوا

اتھیں اپنے بزرگوں اور تہذیب و تمدن کے بانیوں کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں اور ان سے مربوط تاریخوں کو بہر صورت اور ہر حال میں باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ یہ ان کی عزت اور افتخار کا باعث ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعہ امتوں کا رجحان ان کی اقدار کے بارے میں اور ان کی اہمیت کے بارے میں اور زیادہ ہوتا ہے۔

یہی وہ چیز ہے جسے قرآن مجید نے چاہا ہے جب اس نے اپنی آیات میں انبیاء، اولیاء، صالحین اور ان کے حالات کا بڑے اہتمام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔

۳۱۔ شیعہ رسول اکرمؐ اور ان کی پاک آل سے شفاعت طلب کرتے ہیں، اور ان کو خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت، طلب حاجات، اور مریضوں کی شفا یابی کیلئے، وسیلہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے اس بات کو نہ صرف یہ کہ بہتر قرار دیا ہے، بلکہ اس نے اس کی طرف واضح انداز میں دعوت بھی دی ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (۱)

اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کیلئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتا تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔

یا یہ فرمایا: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (۲)

(۱) سورہ نساء، آیت ۶۴

(۲) سورہ فتح، آیت ۲۱

اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔  
اور اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔

یہ بات کیسے معقول ہے کہ ایک جانب رسول اکرمؐ کو خدا گنہگاروں کی شفاعت کیلئے مقام شفاعت اور صاحبان حاجات کیلئے مقام وسیلہ عنایت فرمادے اور دوسری طرف لوگوں کو منع فرمائے کہ ان سے شفاعت طلب نہ کریں؟! یا نبی اکرمؐ پر حرام قرار دیدے کہ آپ اس مقام سے کوئی استفادہ نہ کریں!؟

کیا خدا نے اولاد یعقوب کا یہ قصہ ذکر نہیں فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد سے شفاعت طلب کی، اور اس طرح کہا:

﴿يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ (۱)

بابا جان اب آپ ہمارے گناہوں کیلئے استغفار کریں، ہم یقیناً خطا کار تھے۔  
تو معصوم اور کریم نبیؐ نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان سے یہ فرمایا:

﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ (۲)

میں عنقریب تمہارے حق میں اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا۔

یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ نبی اور ائمہؑ مر گئے ہیں لہذا ان سے دعا طلب کرنا مفید نہیں؟ کیونکہ انبیاء اور خاصان خدا زندہ رہتے ہیں خاص طور سے حضرت محمد

معظنی ﷺ جن کے بارے میں خدا نے یہ ارشاد فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (۱)

اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے، تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ رہیں۔  
اس آیت میں ”شہیداً“ کے معنی شاہد ہیں۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَيْرَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (۲)

اور پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ، رسول اور صاحبان ایمان سب دیکھ رہے ہیں۔

یہ آیتیں روز قیامت تک چاند، سورج اور رات و دن کی طرح جاری و ساری رہیں گی، لہذا رسول اسلام اور آپ کی پاک آل لوگوں پر گواہ ہیں، اور شہداء زندہ ہیں جیسا کہ خدا نے اپنی کتاب عزیز میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ کہا ہے۔

۳۲۔ شیعہ جعفری فرقہ نبی اور ائمہ کی ولادت پر محفل اور خوشی کے پروگرام کرتے ہیں، اور ان کی وفات پر ماتم و عزاء کرتے ہیں، اور ان پروگراموں میں ان کے فضائل

(۱) سورہ بقرہ، آیت ۱۴۳۔

(۲) سورہ توبہ، آیت ۱۰۵۔

(۱) سورہ یوسف، آیت ۹۷۔

(۲) سورہ یوسف، آیت ۹۸۔

اور مناقب اور ان کی ہدایت بخش سیرت و کردار کا ذکر کرتے ہیں، جو صحیح نقل کے ذریعہ ان تک پہنچی ہے، اور یہ سب قرآن کی اتباع میں کرتے ہیں کیونکہ قرآن کریم نے بار بار نبی اکرم اور دیگر نبیوں کے مناقب ذکر کئے ہیں، اور انھیں سراہا ہے، اور تمام لوگوں کے اذہان کو، تاسی، اقتداء، عبرت اور ہدایت حاصل کرنے کی خاطر اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔

شیعہ ان محفلوں میں حرام افعال انجام دینے سے پرہیز کرتے ہیں، جیسے عورت اور مردوں کا آپس میں مخلوط ہونا، حرام چیزوں کا ان محفلوں میں کھانا پینا اور مدح و ثنا کرنے میں غلو کرنا۔ (۱)

یا اسی قسم کے دوسرے نامناسب افعال انجام دینا جو روح شریعت کے خلاف ہیں، اور ان میں شرعی مسلم حدود کا خیال نہ رکھا جائے، یا ایسی چیز جس کے لئے قرآن اور صحیح حدیث کی تائید نہ ہو، یا کتاب و سنت سے استنباط کیا ہو کوئی کلی قاعدہ صادق نہ ہوتا ہو۔

۳۳۔ شیعہ جعفری فرقہ ایسی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں جو احادیث رسول اکرم اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی روایات پر مشتمل ہیں، جیسے ”الکافی“ مؤلفہ

(۱) غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو الوہیت اور ربوبیت کا درجہ دیدیں، یا یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ کسی کام کے انجام دینے میں مشیت الہی اور اذن خدا کے بغیر اسے انجام دیتا ہے، جیسا کہ یہود و نصاریٰ انبیاء کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔

مذہب الاسلام شیخ کلینی، ”من لا یحضرہ الفقیہ“ مؤلفہ شیخ صدوق، ”استبصار“ اور ”تہذیب“ مؤلفہ شیخ طوسی ان کے یہاں یہ حدیث کی اہم کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں اگر صحیح احادیث پر مشتمل ہیں، لیکن نہ ان کے مؤلفین و مصنفین اور نہ ہی شیعہ فرقہ ان تمام احادیث کو صحیح قرار دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شیعہ فقہاء ان کی تمام احادیث کو صحیح نہیں جانتے، بلکہ وہ صرف انھیں احادیث کو قبول کرتے ہیں جو ان کے نزدیک شرائط صحت پر کھری اترتی ہوں، جو علم درایہ، رجال اور قوانین حدیث پر پوری نہیں اترتی ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں۔

۳۳۔ اسی طریقہ سے شیعہ (عقائد، فقہ اور دعا و اخلاق کے میدان میں) دوسری کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، جن میں علیہم السلام سے مختلف قسم کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، جیسے نہج البلاغہ، جسے سید رضی نے تالیف کیا ہے، اور اس میں امام علی علیہ السلام کے خطبے، خطوط، اور حکمت امیر مختصر کلمات موجود ہیں، اور اسی طرح امام زین العابدین علی بن حسین علیہم السلام کا ”رسالہ حقوق“ اور ”صحیفہ سجادیہ“ یا امام علی علیہ السلام کا ”صحیفہ علویہ“ اور دیگر کتابیں جیسے عیون اخبار رضا، التوحید، خصال، علل الشرائع اور معانی الاخبار؛ مؤلفہ شیخ صدوق وغیرہ۔

۳۵۔ شیعہ جعفری فرقہ بعض اوقات ان صحیح احادیث رسول سے بھی بغیر کسی تعصب و کینہ یا نخوت و تکبر کے استناد کرتا ہے جو اہل سنت و الجماعت (۱) بھائیوں کی

(۱) یہاں پر اس بات پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ شیعہ امامیہ بھی اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں۔

کتابوں میں مختلف مقامات پر نقل کی گئی ہیں، جس کی گواہ شیعوں کی وہ قدیم اور جدید کتابیں ہیں، جن میں صحابہ کرام، ازواج نبی، رسول کے مشہور صحابہ اور اکابر اولیوں سے حدیثیں نقل ہوئی ہیں، جیسے ابو ہریرہ، انس وغیرہما، البتہ ایک شرط کے ساتھ وہ یہ کہ وہ قرآن مجید اور دیگر صحیح حدیث سے متعارض نہ ہو، اور نہ ہی عقل محکم (مسلم) اور اجماع علماء کے مخالف ہو۔

۳۶۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دور قدیم و جدید میں جن مشکلات، چائی یا مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ صرف ان دو چیزوں کا نتیجہ ہیں:

۱۔ اہل بیتؑ کو بھلا دینا جبکہ وہ درحقیقت قیادت کی لیاقت اور صلاحیت رکھتے تھے، اسی طرح ان کے ارشادات و تعلیمات کو بھلا دینا، بالخصوص قرآن مجید کی تفسیر ان سے ہٹ کر بیان کرنا۔

۲۔ اسلامی فرقوں اور مذاہب کے درمیان اختلاف، تفرقہ، اور لڑائی، جھگڑے۔

یہی وجہ ہے کہ شیعہ فرقہ ہمیشہ ملت اسلامیہ کی صفوں کے درمیان وحدت قائم

.....  
 صحابہ ہی جو سنت نبوی میں وارد ہوا ہے، اسے قولاً، عملاً تسلیم کرتے ہیں، اور ان میں وہ دستیں ہیں جو رسول نے اہل بیت کے حق میں کیں، اور شیعہ ان پر کما حقہ عمل پیرا ہیں، اور اس بات کی گواہی شیعہ کے عقائد، ان کی فقہ، اور ان کی حدیثوں کی کتابیں اس بات پر بہترین شاہد ہیں، اور اس سلسلے میں ابھی آخر میں ایک مفصل موسوعہ (مجموعہ) بھی دس جلدوں میں شائع ہوئی ہے، جس میں رسول اسلام کی شیعہ منابع و مصادر سے روایتوں کو جمع کیا گیا ہے، جس کا نام ”سنن النبی“ ہے

کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور تمام لوگوں کی طرف پیار و دوستی اور بھائی چارگی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان فرقوں و مذاہب کے احکام اور ان کے نظریات اور ان کے علماء کے اجتہاد کا بھی احترام کرتا ہے۔

چنانچہ اس راستہ میں شیعہ جعفری فقہاء، ابتدائی صدیوں سے ہی اپنی فقہی، تفسیری اور کلامی کتابوں میں غیر شیعہ فقہاء کے نظریات کا ذکر کرتے آئے ہیں، جیسے شیخ طوسی کی کتاب فقہ میں ”الخلافا“ شیخ طبری کی کتاب تفسیر میں ”مجمع البیان“ جن کی تعریف ازہر یونیورسٹی کے بزرگ علماء نے کی ہے۔

یا علم کلام میں نصیر الدین طوسی کی کتاب ”تجرید الاعتقاد“، جس کی تشریح عالم اہل سنت علماء الدین قوشچی اشعری نے کی ہے۔

۳۷۔ شیعہ جعفری فرقہ کے بزرگ علماء تمام اسلامی مختلف مذاہب کے علماء کے درمیان فقہ، عقائد اور تاریخی موضوعات میں گفتگو اور تبادلہ خیال کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، اور دور حاضر کے مسلمانوں کے مسائل کے درمیان تقاہم کی تاکید کرتے ہیں، اور تہمت و اتہام کے تیروں اور دشنام بازی سے فضا کو زہر آلود کرنے سے حتی الامکان اجتناب کرتے ہیں، تاکہ اسلامی ملت کے درمیان جو فاصلہ موجود ہے اور اس کی وجہ سے وہ متعدد حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اس میں ایک منطقی قربت کی فضاء ہموار ہو، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا راستہ بند ہو جائے، جو ہمارے درمیان ایسی دراروں کی کھوج میں رہتے جن کے ذریعہ وہ بغیر کسی استثناء کے تمام مسلمانوں کو

نقصان پہنچائیں۔

اور اسی وجہ سے شیعہ فرقہ کسی بھی اہل قبلہ (مسلمان) کو کافر نہیں کہتا، کیونکہ شیعوں کا فقہی مذہب اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے جس کے کفر پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہو، شیعہ اہل قبلہ سے دشمنی نہیں کرتے اور نہ ان پر قہر و غلبہ اور جبر و اکراہ پسند کرتے ہیں اور شیعہ تمام اسلامی فرقوں اور مذاہب کے علماء کے اجتہاد کا احترام کرتے ہیں، اور جو شخص کسی دوسرے مذہب سے شیعہ مذہب میں آیا ہے اسکے تمام اعمال کو مسقط تکلیف اور اسے بری الذمہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جب اس نے اپنے مذہب کے مطابق نماز، روزے، حج، زکاۃ، نکاح، طلاق اور خرید و فروخت وغیرہ جیسے امور انجام دئے، لہذا گزشتہ فرائض کی قضا واجب نہیں، اسی طرح اس کے لئے تجدید نکاح و طلاق واجب نہیں، البتہ شرط یہ ہے کہ مذہب کے مطابق جاری ہوئے ہوں۔

اسی طرح شیعہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بالکل اسی طرح رہتے ہیں جیسے کہ اگر وہ ان کے بھائی اور رشتہ دار ہوتے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ایسے ہی رہتے۔

لیکن شیعہ استعماری فرقوں کی تائید و تصدیق نہیں کرتے ہیں، جیسے بہائیت، بابیت اور قادیانی یا اس کی مانند دوسرے فرقے، بلکہ شیعہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان سے محارہ کرتے ہیں اور ان سے ہر قسم کے رابطہ کو حرام قرار دیتے ہیں۔

شیعہ (بعض اوقات، نہ کہ ہمیشہ) تقیہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مذہب اور عقیدہ کو (کسی سبب کی بنا پر) پوشیدہ کیا جائے، اور یہ تقیہ نص قرآنی کے

مطابق ایک جائز امر ہے، اور اس پر تمام اسلامی مذاہب عمل کرتے ہیں البتہ جب کسی دشمن کے درمیان پھنس جائے (اور اظہار عقیدہ کی صورت میں یقینی طور پر خطرہ موجود ہو) تو تقیہ کیا جاسکتا ہے، اور یہ دو سبب کی بنا پر ہوتا ہے:

۱۔ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر تاکہ اس کا خون رائیگاں نہ بہ جائے۔

۲۔ وحدت مسلمین باقی رہے، اور ان کے درمیان اختلاف و افتراق پیدا نہ ہو۔

۳۸۔ شیعہ فرقہ سمجھتا ہے کہ آج مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کا سبب فکری، ثقافتی، علمی اور ٹکنالوجی کے میدان میں ان کا آپس میں اختلاف و تفرقہ ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ خود مسلمان مرد اور عورتوں کے شعور کو بلند کیا جائے اور ان کی فکری، ثقافتی اور علمی سطح کی ترقی کیلئے علمی مراکز قائم کئے جائیں، جیسے یونیورسٹیاں، مدارس، ادارے، اور جدید علوم کے نتائج اور تجربات سے اقتصادی، آباد کاری، صنعت و حرفت کی مشکلات کو رفع کیا جائے، اور مسلمانوں کو میدان عمل اور خوشحال زندگی کی سرگرمیوں میں لانے کیلئے ان کے درمیان اطمینان و وثوق کی فضا پیدا کی جائے، تاکہ ان میں استقلال اور خود اعتمادی پیدا ہو سکے اور دوسروں کی خوش آمد اور ان کی اتباع سے محفوظ رہیں، اسی لئے شیعہ حضرات جہاں سے بھی گزرے اور جس جگہ سکونت اختیار کی وہاں انھوں نے علمی اور تعلیمی مرکزوں کی بنیاد رکھی، اور مختلف علمی میدانوں میں ان کے ماہرین کی تربیت کیلئے ادارے قائم کئے، اسی طرح انھوں نے ہر ملک اور شہر کی یونیورسٹیوں اور دینی مدارس میں داخلے لئے جس کے نفع میں وہاں سے زندگی کے



شعبہ میں اعلیٰ درجہ کے علماء اور اہل فن تعلیم سے فارغ ہوئے، اور جس کے بعد انھوں نے باقاعدہ علمی مرکزوں تک رسائی حاصل کی اور قابل قدر خدمات چھوڑیں۔

۳۹۔ شیعہ فرقہ اپنے علماء اور فقہاء سے تقلید کے ذریعہ ہمیشہ رابطہ میں رہتا ہے، اس لئے کہ وہ اپنے فقہی مشکلات میں ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے تمام مسائل میں ان علماء کی رائے پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ فقہاء (ان کے عقیدے کے مطابق) آخری امام کے وکیل ہیں، اور اس کے عام نائب ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اپنے امور معاش و اقتصاد میں سرکاری حکومتوں پر اپنا دار و مدار نہیں رکھتے، اسی لئے ان کے علماء حضرات اس عظیم فرقے کے افراد کے درمیان وثاقت اور اعتماد کے عظیم اور عالی مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔

اور اس فرقہ کے دینی علمی مدارس (جو علماء سازی کے مراکز ہیں) خمس و زکاۃ کے اموال سے اپنی اقتصادی حاجات کو پورا کرتے ہیں، جنھیں لوگ اپنے دلی میل و رغبت کے ساتھ، فقہاء کے حوالے کرتے ہیں، اور اسے نماز و روزے کی طرح ایک شرعی وظیفہ سمجھتے ہیں۔

اور شیعہ امامیہ کے نزدیک اپنی درآمد کے منافع (بجٹ) سے خمس نکالنا واجب ہے، جس پر واضح دلیلیں موجود ہیں، اور اس بارے میں کچھ روایات صحاح اور سنن میں بھی نقل ہوئی ہیں۔ (۱)

۴۰۔ شیعہ امامیہ فرقہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ ان اسلامی حکومتوں سے فائدہ اٹھائیں، جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتی ہیں، اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور دوسری حکومتوں سے مناسب اور مسالمت انداز میں رابطہ قائم کرتی ہیں، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور مسلمانوں کے ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی استقلال کیلئے کوشاں رہتی ہیں، تاکہ مسلمان باعزت رہ سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱)

اور عزت صرف خدا اور اس کے رسول اور مؤمنین کیلئے ہے۔

اور خدا نے فرمایا:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۲)

خبردار سستی نہ کرنا اور مصائب پر محزون نہ ہونا اگر تم صاحب ایمان ہو۔

اور شیعہ فرقہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام (کیونکہ وہ کامل اور جامع دین ہے اس لئے) کے پاس حکومتی نظام سے متعلق ایک دقیق راہ و روش اور دستور العمل موجود ہے، لہذا عظیم ملت مسلمہ کے علماء پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کامل نظام کو عملی جامہ پہنانے کیلئے باہم بیٹھ کر گفتگو کریں تاکہ اس امت کو پریشان حالی اور سرگردانی اور کبھی تمام نہ ہونے

(۱) سورہ منافقین، آیت ۸.

(۲) سورہ آل عمران، آیت ۱۳۹.

(۱) بجٹ خمس سے متعلق شیعہ فقہاء کی استدلالی اور استنباطی کتابیں ملاحظہ فرمائیں.

والی مشکلات سے باہر نکالیں اور اللہ ہی ناصر و مددگار ہے۔

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (۱)

اگر تم نے خدا کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔

یہ شیعہ امامیہ (جسے جعفری فرقہ بھی کہا جاتا ہے) کے نزدیک؛ عقائد اور ان شریعت کے اہم خدو خال تھے جنہیں میں نے آپ کے سامنے بالکل واضح اور روشن سطروں میں پیش کر دیا۔

اس فرقہ کے لوگ اس وقت اپنے دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ تمام اسلامی ممالک میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو، اور ان کے سماج اور معاشرے کی حفاظت کے لئے حریص ہیں، اور اس راہ میں اپنی جان و مال اور شخصیت تک کو قربان کرنے کیلئے آمادہ نظر آتے ہیں۔

# يا صاحب الزمان ادر كنى خدمتگارانِ مكتبِ اهلبيت (ع)

سيد حسن على نقوى

حسان ضياء خان

سعد شميم

حافظ محمد على جعفرى

﴿ التماس سورة الفاتحة ﴾

سيده فاطمه رضوى بنت سيد حسن رضوى

سيد ابوزر شہرت بلگرامى ابن سيد رضوى

سيد مظاہر حسين نقوى ابن سيد محمد نقوى

سيد محمد نقوى ابن سيد ظہير الحسن نقوى

سيد الطاف حسين ابن سيد محمد على نقوى

سيده ام حبیبہ بیگم

حاجى شيخ عليم الدين

شمشاد على شيخ

مسح الدين خان

فاطمه خاتون

شمس الدين خان

Hassan

naqviz@live.com